



# FIRST HABIB MODARABA

## RESIDUAL VALUE CAR FINANCE APPLICATION FORM

**HABIBMETRO**  
Modaraba Management

Latest  
Photograph

Full Name of Applicant (in block letters)  Male  Female  Single  Married   
 درخواست گزار کا مکمل نام  مرد  عورت  غیر شادی شدہ  شادی شدہ

Father's / Husband's Name  Mother Maiden Name   
 والد/شوہر کا نام  والدہ کا نام

Date of Birth  Educational Qualification  Professional Qualification   
 تاریخ پیدائش  تعلیمی قابلیت  پیشہ ورانہ قابلیت (اگر کوئی ہے)

CNIC/Passport/POC No.  Issue Date  Expiry Date   
 این آئی سی/پاسپورٹ/ای سی نمبر  تاریخ نفاذ  مندرجہ کی تاریخ

Place of Birth  Nationality  Resident  Non-Resident   
 جائے پیدائش  قومیت  رہائشی  غیر رہائشی

Residential Address

Residing years at this address  Years Duration of living in this city  Year E-mail   
 آپ اس پتے پر کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں  سال آپ اس شہر میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں  سال ای میل

Status of Residence Own  Rented  Parent's  Tel. No.  Mobile No.   
 ذاتی رہائش کی حیثیت  کرائے کی  والدین کی  فون نمبر  موبائل نمبر

If Rented, Monthly Rent  Type of Accommodation  House  Portion  Apartment  Room   
 اگر کرائے کی ہے تو ماہانہ کرایہ  رہائش کی قسم  گھر  پورشن  اپارٹمنٹ  کمرہ

Permanent Address

Next of Kin Name  Relationship  Contact No.   
 قریبی رشتہ دار کا نام  تعلق  رابطہ نمبر

### DETAILS OF VEHICLE TO BE FINANCED

جس گاڑی کو فنانس کرنا ہے اس کی تفصیل

Maker  Model  Local/Imported  Manufacturer/Supplier   
 بناوٹ  ماڈل  مقامی/درآمد  مینوفیکچرر/سپلائر

Price of Vehicle  Down Payment  Financing amount required  Residual Value   
 گاڑی کی قیمت  ڈاؤن پیمنٹ  کتنی فنانسنگ رقم کی ضرورت ہے  بقایا قیمت

Repayment period  Years Referred by   
 ادائیگی کی مدت  سال حوالہ

### FOR SALARIED PERSONS:

نوکری پیشہ افراد کیلئے

Employer's Name  Employer's Address   
 آجر کا نام  آجر کا پتہ

Tel. No.  Office No.  E-mail   
 فون نمبر  آفس کا فون نمبر  ای میل

Date of Joining  Department  Designation   
 شمولیت کی تاریخ  شعبہ  عہدہ

Name of previous employer  Years of Experience  Tel. No.   
 پچھلے آجر کا نام  سال  فون نمبر

### SALARY INFORMATION (Rupees in figure)

تنخواہ کی تفصیل (روپے عدد میں)

Monthly Gross Salary  Monthly Net Salary (After all deduction)   
 مجموعی تنخواہ ماہانہ  ماہانہ خالص تنخواہ (تمام ٹوٹی کے بعد)

Other Income (if any)  Source of other income, Please Specify   
 دیگر آمدنی (اگر کوئی ہے)  دوسری آمدنی کا ذریعہ، براہ کرم وضاحت کریں۔

### FOR SELF-EMPLOYED/BUSINESS PERSON

کاروباری/ذاتی کاروبار کرنے والوں کیلئے

Name of Business  Nature of Business  Established since   
 کاروبار کا نام  کاروبار کی نوعیت  قیام کی تاریخ

Business Address  Tel. No.  Mobile No.  E-mail   
 کاروبار کا پتہ  فون نمبر  موبائل نمبر  ای میل

Business premises Owned  Rented  N.T.N

### INCOME INFORMATION (Rupees in figure)

آمدنی کی تفصیل (روپے عدد میں)

Average Monthly Income  Other Income (if any)  Source of other income, Please Specify   
 اوسط ماہانہ آمدنی  دیگر آمدنی (اگر کوئی ہے)  دوسری آمدنی کا ذریعہ، براہ کرم وضاحت کریں۔

### BANK ACCOUNTS

بینک اکاؤنٹس

Sr. No	Bank	Account No.	Type of Account	Branch
نمبر شمار	بینک کا نام	اکاؤنٹ نمبر	اکاؤنٹ کی قسم	برانچ

♦ Would you like to pay installments via online fund transfer? Yes  No  ہاں  نہیں

Applicant's Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

(Please see overleaf صفحہ پلٹیں)

## OUTSTANDING FINANCING FACILITIES (if any)

بقایا مالیاتی سہولیات (اگر کوئی ہیں)

Sr. No. نمبر شمارہ	Financing Institution فنائنگ انسٹیٹیوشن	Type of Finance فنائنگ کی قسم	Monthly Installment (Rs.) ماہانہ اقساط (روپے)	Amount Outstanding (Rs.) بقایا رقم (روپے)

## REFERENCES

حوالہ جات

1) Name نام

Address پتہ

Relationship تعلق

Contact No. رابطہ نمبر

CNIC No. ساین آئی سی نمبر

2) Name نام

Address پتہ

Relationship تعلق

Contact No. رابطہ نمبر

CNIC No. ساین آئی سی نمبر

## PLEASE ATTACH THE FOLLOWING WITH YOUR APPLICATION

برائے مہربانی اپنی درخواست کے ساتھ درج ذیل منسلک کریں

### Standard documents:

- Recent passport size photographs
- Copy of valid CNIC/Passport/POC
- Copy of last paid utility bill
- Bank statements for last six months with account maintenance certificate
- Upfront payment of Rs. 2,500/- (Non refundable)

بنیادی دستاویزات:

- پاسپورٹ سائز حالیہ تصاویر
- ساین آئی سی / پاسپورٹ / پی او سی نمبر کی کاپی
- آخری ادا شدہ یوٹیلیٹی بل کی کاپی
- گزشتہ 06 ماہ کا بینک اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کے ساتھ
- پیشگی ادائیگی مبلغ - 2,500/- (نا قابل واپسی)

### Additional documents for salaried persons:

- Last month salary slip original or company certified copy
- Letter from employer, stating the date of joining, gross package & designation's detail along with the contact detail of the letter issuer

اضافی دستاویزات برائے نوکری پیشہ حضرات:

- آخری مہینے کی تنخواہ کی سلیپ: اصل یا آجر سے تصدیق شدہ
- آجر کی جانب سے خط جس میں تقرری کی تاریخ، عمدہ اور ماہانہ تنخواہ کی تفصیل بشمول خط کے جاری کرنے والے سے رابطے کی تفصیلات درج ہوں

### Additional documents for self-employed/proprietor/traders:

- Copies of Income and Wealth Tax returns (Last two years)
- Copy of professional degree, (if applicable)
- Current professional association membership/practising certificate, if applicable
- Copy of property ownership documents or rental agreement of business premises (if required)
- Latest Financial Statements
- Bank Certificate stating applicant's business account and its duration
- Copy of partnership deed (If applicable)

اضافی دستاویزات برائے ذاتی کاروبار

- گزشتہ 02 سال کے انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس ریٹرن کی کاپی
- پیشہ ورانہ اسناد کی کاپی (اگر مہیا ہیں تو)
- پیشہ ورانہ اداروں کی رکنیت / رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹس کی کاپی (اگر مہیا ہیں تو)
- کاروباری احاطے کی ملکیت کے دستاویزات یا کرایے کے معاہدے کی کاپی (اگر مطالبہ کرے)
- آخری سال کے مالیاتی گوشوارے
- درخواست گزار کے اکاؤنٹ کا بینک سرٹیفکیٹ
- کاروباری شرائط کا تصدیق شدہ معاہدہ (اگر مہیا ہیں تو)

## DECLARATION

اقرار نامہ

### I understand that :

- FHM reserves the right to accept or reject an application at its sole discretion without assigning any reason and I/we will not incur any liability for the same.
- I undertake to pay all necessary charges including the processing fees (non-refundable) to FHM.
- I hereby certify that all statements in this application are true and complete and in case of any of the particulars given herein are found subsequently false and fictitious, I shall be liable thereafter and you can take any action against me whatever you deem expedient and fit, and recall the outstanding amount of financing facility, which I confirm to pay you forthwith along with all charges, cost and mark-up, if any accrued, on said financing facility.
- The references whose particulars are mentioned in this application form are fully aware of this transaction and will confirm the same.
- That there are no bankruptcy proceedings that have been instituted against me or are within my knowledge likely pending to be instituted against me.
- I undertake to inform FHM in case of any change in any of the details stipulated in this application form within 15 days of such change.
- FHM is authorized to make verification of my residence or any other information through its authorized representative.
- I hereby authorize FHM and any relevant third parties to exchange information for the purpose of processing my Application including conduct of my account, till such time the entire outstanding amount under the finance facility is paid by me to FHM.
- In case of any default in repayment of financing installment and or any other amount due as per terms and conditions of requested financing, FHM (the creditor) would be authorized to initiate legal proceedings against me and my guarantor upon my entire risk and responsibility.

میں سمجھتا/سمجھتی ہوں

- ایف ایچ ایم فیم محفوظ رکھتا ہے کہ درخواست کو اپنی صوابدید پر بغیر کوئی وجہ بتائے قبول یا مسترد کر دے اور اس ضمن میں ایف ایچ ایم کو کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔
- میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر قسم کے چارجز بشمول درخواست کی پروسیسنگ چارجز ادا کرنے کا پابند ہوں گا/ ہوں گی۔
- میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ اس درخواست فارم میں فراہم کردہ تمام معلومات درست اور مکمل ہیں اور اگر بعد میں یہاں بیان کردہ معلومات میں سے کچھ بھی غلط یا تخریف شدہ ثابت ہوا تو میں مکمل ذمہ دار ہوں گا/ ہوں گی، اور ایف ایچ ایم میرے خلاف کوئی بھی کارروائی عمل میں لاسکتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ مجھ سے دی گئی کارفنانسنگ واپس لے لے اور اس ضمن میں تمام چارجز بشمول قیمت، کرایہ وغیرہ وصول کرے۔
- جن حوالہ جات کی تفصیلات اس درخواست فارم میں دی گئی ہیں اس لین دین سے پوری طرح واقف ہیں اور تصدیق کر دیتے ہیں۔
- میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میرے خلاف کوئی دیوالیہ یا کسی مالیات ادا نہ ہونے کی ضمانت میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔
- میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں/ لیتی ہوں کہ اس فارم میں دی گئی کسی بھی تفصیل میں تبدیلی کی صورت میں 15 دن میں ایف ایچ ایم کو مطلع کروں گا۔
- ایف ایچ ایم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے نامزد کردہ نمائندے کے ذریعے میرے گھر کی یا کسی اور کی تفصیل کی تصدیق کروا سکتے ہیں۔
- میں ایف ایچ ایم کو اختیار دیتا/ دیتی ہوں کہ اس درخواست کو پروسس کرنے کیلئے کسی بھی تیسرے فریق کو میری معلومات فراہم کرے بشمول میرے کھاتے کی معلومات یا وقت کے میں تمام فنائنگ کی رقم ایف ایچ ایم کو ادا کر دوں۔
- کسی بھی وجہ سے ادا کردہ ہونے کی صورت میں، FHM (the creditor) میرے اور میری ضمانت دینے والے کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا مجاز ہو گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں گا۔

In case of any emergency you may also contact Mr. / Mrs. / Ms. : \_\_\_\_\_ Tel. No. \_\_\_\_\_

Applicant's Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

FOR OFFICE USE ONLY

REMARKS : \_\_\_\_\_

FHM Officer Name \_\_\_\_\_

Signature & Stamp \_\_\_\_\_